

Service Appeal No. 609/2016

31.07.2018 Learned counsel for the appellant present. Mr. Kabirullah Khattak, Additional AG for the respondents also present. Arguments heard and record perused.

Vide our detailed judgment of today placed in connected Service Appeal No. 603/2013 "titled Mst. Shamia Bibi Versus Additional Agency Education Officer, Lower & Central Kurram, Sadda, Kurram Agency and three others respondents, the present appeal is accepted, the impugned order is set aside and the appellant is reinstated in service. However, the respondents are at liberty to conduct de-novo inquiry within a period of three months from the date of receipt of this judgment. The intervening period shall be treated as leave without pay. Parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record room.

ANNOUNCED

31.07.2018



(MUHAMMAD HAMID MUGHAL)  
MEMBER



(AHMAD HASSAN)  
MEMBER

14.05.2018

The Tribunal is defunct due to retirement of Hon'ble  
Chairman. Therefore, the case is adjourned. To come up on  
31.07.2018.

  
READER

~~[REDACTED]~~

28.09.2017

None for the appellant present. Addl: AG alongwith Mr. Daud Jan, Supdt for respondents present. Written reply on behalf of respondents no. 3 and 4 not submitted despite repeated opportunities, therefore their right of defense is struck off. To come up for arguments on 27.12.2017 before D.B.

  
(Ahmad Hassan)  
Member

27.12.2017


Counsel for the appellant present. Mr. Kabir Ullah Khattak, Addl: AG for the respondents present. Counsel for the appellant seeks adjournment. Adjourned. To come for arguments on 27.02.2018 before the D.B.

  
Member

  
Chairman

27.02.2018

Appellant with counsel and Additional AG alongwith Mr. Daud Jan, Superintendent for the respondents present. To come up for arguments alongwith connected appeal No. 603/2016 Mst. Shamia Bibi on 12.04.2018 before the D.B.

  
Member

  
Chairman

12.04.2018


Counsel for the appellant and Addl. AG alongwith Daud Jan, Superintendent for the respondents present. To come up for arguments alongwith connected appeal No. 603/2016 before the D.B on 14.05.2018.

  
Member

  
Chairman

03.05.2017

Clerk to counsel for the appellant and Mr. Daud Jan, Supdt. alongwith Addl. AG for the respondents present. Written reply submitted on behalf of respondents No. 1 and 2. Cost of Rs. 100/- also paid and receipt thereof obtained from the learned counsel for the appellant. Remaining respondents written reply not submitted despite extension of last opportunity and cost of Rs. 100/-. Another last opportunity is extended subject to payment of further cost of Rs. ~~500~~ 500/- which shall be borne by the respondents from their own pockets. To come up for written reply/comments of respondents No. 3 and 4 and cost of Rs. ~~600~~ 600/- on 13.07.2017 before S.B.



(Ahmad Hassan)

Member

13.07.2017

Clerk of the counsel for appellant present. Mr. Kabirullah Khattak, Assistant AG for the respondents also present. Written reply on behalf of respondents No. 1 & 2 have already submitted. Representative of respondents No. 3 & 4 are not in attendance nor written reply on their behalf submitted despite extension of last opportunity. Another last opportunity is extended subject to payment of further cost of Rs. 500/- which shall be borne by respondents No. 3 & 4 from their own pockets and notice be also issued to respondents No. 3 & 4 with the direction to direct their representatives to attend the court on the next date and submit written reply. To come up for written reply/comments and cost of Rs. 1100/- on behalf of respondents No. 3 & 4 on 28.08.2017 before S.B.



(Muhammad Amin Khan Kundi)

Member


22.12.2016

Clerk to counsel for the appellant and Addl. AG for respondents present. Written reply not submitted. Requested for adjournment. Request accepted. Last opportunity granted. To come up for written reply/comments on 30.01.2017 before S.B.

  
(MUHAMMAD AAMIR NAZIR)  
MEMBER

30.01.2017

Clerk counsel for appellant and Mr. Daud Jan, Superintendent alongwith Mr. Muhammad Adeel Butt, Additional AG for respondents present. Written reply by respondents not submitted despite last opportunity. Learned Additional AG requested for further time for submission of written reply. Last opportunity further extended subject to payment of cost of Rs. 100/- which shall be borne by the respondents from their own pockets. To come up for written reply/comments positively on 14.03.2017 before S.B.

  
(ASHFAQUE TAJ)  
MEMBER

14.03.2017

Clerk to counsel for the appellant and Mr. Daud Jan, Sudpt. alongwith Addl. AG for respondents present. Written reply and cost not submitted by respondents. Representative of the respondent-department stated at the bar that case of the appellants for reinstatement in service was under process and would be finalized before the next date of hearing. Requested for adjournment. Request accepted. To come up for written reply/comments and cost on 03.05.2017 before S.B.

  
(AHMAD HASSAN)  
MEMER

14.06.2016

Counsel for the appellant present. Learned counsel for the appellant argued that the appellant was serving as PST when removed from service vide impugned order dated 18.02.2016 on the allegations of willful absence where-against she preferred departmental appeal which was not responded and hence the instant service appeal on 07.06.2016.

That the appellant was not absent from duty as the alleged period of absence was period of vacation. That no enquiry in the prescribed manners was ever conducted.

Points urged need consideration. Admit. Subject to deposit of security and process fee within 10 days, notices be issued to the respondents for written reply/comments for 23.08.2016 before S.B.

Appellant Deposited  
Security & Process Fee

  
Chairman

23.08.2016

Counsel for the appellant and Mr. Muhammad Numan, AO alongwith Addl. AG for respondents present. Written reply not submitted. Requested for adjournment. Request accepted. To come up for written reply/comments on 3.11.2016 before S.B.

  
Chairman

03.11.2016



Counsel for the appellant and Addl. AG for respondents present. Written reply not submitted. Requested for adjournment. Request accepted. To come up for written reply/comments on 22.12.2016 before S.B.

  
Member

Form- A  
FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

Case No. 609/2016

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge or Magistrate
1	2	3
1	07/06/2016	<p>The appeal of Mr. Awal Shah presented today by Mian Asif Amam Advocate may be entered in the Institution Register and put up to the Worthy Chairman for proper order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p>
2-	3-6-2016	<p>This case is entrusted to S. Bench for preliminary hearing to be put up there on. <u>14-6-16</u></p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p>

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.

Service Appeal No. 609 of 2016

Mr. AWAL SHAH

VERSUS

Additional Agency  
Education Officer & others

INDEX

S.No.	Description of documents	Annexure	Pages
1.	Grounds of appeal		1-6
2.	Affidavit		7
3.	Addresses of the parties		8
4.	Copy of the impugned order dated 18-02-2016 and show cause published notice "	"A & B"	9-10
5.	Copy of Departmental appeal	"C"	11-13
6.	Copy of the salary bill	"D"	14
7.	Copies of the applications and departmental correspondences.	"E to H"	15- 18
8.	Wakalat Nama	-	-

Appellant

Through



MIAN ASIF AMAN

Advocate, High Court,

Peshawar

Off: T-30, 3<sup>rd</sup> Floor Bloor Plaza, Peshawar Cantt.

Cell # 0313-9185077.



①

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.

Service Appeal No. 609 of 2016

Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal

Diary No. 586

Dated 7-6-2016

AWAL SHAH CLASS IV ,EX-CHOUKIDAR GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL  
MIRDO TANG, KURRAM AGENCY.

..... APPELLANT

VERSUS

- 1) ADDITIONAL AGENCY EDUCATION OFFICER, LOWER & CENTRAL  
KURRAM, SADDA, KURRAM AGENCY.
- 2) DIRECTOR OF EDUCATION FATA, FATA SECRETARIAT,  
PESHAWAR.
- 3) AGENCY ACCOUNT OFFICER KURRAM AGENCY.
- 4) GOVERNMENT OF KHYBER PUKHTOON KHWA, THROUGH  
SECRETARY EDUCATION, CIVIL SECRETARIAT, PESHAWAR.

..... RESPONDENTS.

APPEAL AGAINST THE OFFICE ORDER No 3374-78  
DATED 18-02-2016 PASSED BY RESPONDENT NO.1  
WHEREBY THE APPELLANT HAS BEEN REMOVED  
FROM SERVICE DUE TO LONG ABSENCE FROM DUTY.

PRAYER

ON ACCEPTANCE OF THIS APPEAL, THE IMPUGNED  
OFFICE ORDER NO 3374-78 DATED 18-02-2016 OF  
RESPONDENT NO.1 MAY KINDLY BE SET ASIDE AND THE  
Filed to-day APPELLANT MAY KINDLY BE ORDERED TO BE REINSTATE IN  
Registrar SERVICE WITH ALL BACK BENEFITS ACCORDING TO HIS  
7/6/16 SENIORITY.

Respectfully Sheweth:

- 1) That the Appellant Appointed in the year 1999 As Class IV,  
Choukidar Government primary school Mirdo Tang, Kurram  
Agency, and since then performed his duties with honesty and  
full devotion.



1702

1702  
1/18

- 2) That the Appellant was surprise and consternation came to know about his removal from service impugned order date 18-02-2016 and show cause notice published in daily news paper Mashriq on 02-02-2016, when the Appellant after winter vacation joined his duties. (Copy of the impugned order dated 18-02-2016 and show cause published notice are attached as Annexure "A & B").
- 3) That feeling aggrieved from the impugned order dated 18-02-2016 the Appellant preferred the departmental appeal. (Copy of Departmental appeal is enclosed as Annexure "C").
- 4) That the departmental appeal has not been answered and decided despite the lapse of statutory period of time, therefore, Appellant filed present appeal against the impugned order dated 18-02-2016 of respondent No.1, which is against the law, facts and principles of justice on the following grounds inter-alia:

**GROUND:**

- A. That the impugned order is based on malafide, ill will, retribution, illegal and void ab-initio.
- B. That ex parte action has been taken against the Appellant and they been condemned unheard.
- C. That no charge sheet and show cause notice were issued to the Appellant.
- D. That the Appellant are serving with all Zest and Zeal with the entire satisfaction of his superiors, performed his duties with religious devotion, therefore, never ever absented from his official duties, which further established from the contents of the attendance registered maintained by the High School which presumption of accuracy and truth is extended, it is pertinent to mentioned here that the said registered of attendance not maintained in the

primary school, where by the head master checked the attendance of Class IV employees.

- E. That Appellant punctual and regular throughout his duties, and never ever absented from his service, which facts further evident from his pay bill was received Appellant every month, had the Appellant been absentees would the respondent No 1 had prepared his salary bills. (Copy of the salary bill attached as annexure D).
- F. That it is important to mention here that during the last few years most of the WATCH MAN/CHOUKIDAR had become unable to perform his duties due to the worse situation in Kurram Agency, the militants factor as well as sectarian factors (Shia & Sunni) also involved. And in the situation the political administration made some decision for improvement law & order situation as per rewaj and custom in the area, which was agreed the Political Agent Kurram Agency and the respondent No 1, whereby when sectarian urgency came in sunni area the shia employee not performed their duties and in shia area the sunni employees not performed their duties until the situation in control, but in these worst situation the Appellant perform his duties as per decided rewaj but the respondent No1, treated the Appellant discriminated.
- G. That malafide of the respondent No 1 is overtly established from the factum that against the dishonest conduct of the respondent No 1, the appellant & Other Colleague had moved applications prior to issuance of impugned order dated 18-02-2016, wherein serious charges of corruption

misconduct were raised before competent authority. (Copies of the applications and departmental correspondence attached as annexure E, F, G, & H).

- H. That the malafide and ill will of respondent No 1 was so high peak that he in winter vacation issued show cause notice through publication daily Mashriq and thereafter removal order were also made in winter vacation, whereof Appellant were not in knowledge, this all smacks of retributive intentions and overt malafide on the respondents.
- I. That as affirm above the winter in Kurram agency is most severe, further more the Appellant leave in scattered far long villages, therefore, Appellant could not get any knowledge of impugned proceeding initiated at the back of ht Appellant malafidely, hence due to explained reason the Appellant could not submits replies of show cause notice.
- J. That ulterior motive of the respondents No 1 self evident from the fact that show cause notices issued through publication against 53 persons but removal impugned order were passed in reference of 17 persons including Appellant, meaning thereby that all those who greased the palms of respondent no 1 were left off the hock, and those who did not obliged him were removed from services just to satisfied personal vendetta of respondent No 1, and more astonished the impugned order dated 18-02-2016 against the facts and ground reality, because one iqbal hussain at serial No 9 impugned order already retired a year ago and received his pension benefit, and not aware the posting of the Appellant.

- K. *That allegation of the absentee is not corroborated by the official record or any medium of unimpeachable evidence, hence alleged charges baseless and void liable to be struck down.*
  
- L. *That the Appellant have been condemned unheard in contravention of salutary doctrine of "Audi alterm partum".*
  
- M. *That no inquiry has been conducted to prove the allegations before awarding the major punishment which this amounts to major deviation from the rules of service laws, hence impugned order is not sustainable in the eye of law.*
  
- N. *That before taking such drastic penal action respondent No 1 did not take pain to seek factual input from concerned headmaster/principal who is immediate officer, this all reflects that all the impugned proceedings were made in cursory and slipshod hasty manner without following the rules and regulations showing some personal interest of respondent no 1.*
  
- O. *That under the law the show cause notice must be issued to every official but herein joint show cause with blanket allegations have been made followed by one pen stroke removal from services impugned order has never been intention of law, needs to be struck down.*
  
- P. *That any other grounds will be raised at the time of the arguments with prior permission of this Honorable Tribunal.*

It is, therefore, prayed that On acceptance of this appeal, the impugned Office order No 3374-78 dated 18-02-2016 of Respondent No.1 may kindly be set aside and the Appellant may kindly be ordered to be reinstate in service with all back benefits according to his seniority

Dated 06-06-2016

Through

Appellant  


**MIAN ASIF AMAN**  
Advocate, High Court,  
Peshawar.

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.

Service Appeal No. \_\_\_\_\_ of 2016

Mr. AWAL SHAH

VERSUS

Additional Agency  
Education Officer & others

AFFIDAVIT


I, AWAL SHAH CLASS IV ,EX-CHOUKIDAR GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL MIRDO TANG, KURRAM AGENCY, do hereby solemnly affirm and declare on oath that the contents of this Appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed from this Hon'ble Court.

*[Signature]*  
DEPONENT

Identified by

*[Signature]*  
MAIN ASIF AMAN  
Advocate Peshawar.

ATTESTED





BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.

Service Appeal No. \_\_\_\_\_ of 2016

Mr. MUZAFFAR DAUD VERSUS

Additional Agency  
Education Officer & others

Address of the parties

APPELLANT

AWAL SHAH CLASS IV ,EX-CHOUKIDAR GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL  
MIRDO TANG, KURRAM AGENCY

RESPONDENTS.

- 1) ADDITIONAL AGENCY EDUCATION OFFICER, LOWER & CENTRAL KURRAM, SADDA, KURRAM AGENCY.
- 2) DIRECTOR OF EDUCATION FATA, FATA SECRETARIAT, PESHAWAR.
- 3) AGENCY ACCOUNT OFFICER KURRAM AGENCY.
- 4) GOVERNMENT OF KHYBER PUKHTOON KHWA, THROUGH SECRETARY EDUCATION, CIVIL SECRETARIAT, PESHAWAR.


Dated 06-06-2013

Through

Appellant

  
MAIN AISF AMAN

Advocate, High Court,  
Peshawar.



ADD: AGENCY EDUCATION  
OFFICE SADDA KURRAM AGENCY  
PHONE: 0926-520674 FAX 0926520674  
No: 3374-78/Edu:  
Dated Sadda:th: 18/02/2016

Ammeure  
A<sup>10</sup>

9

REMOVAL FROM SERVICE

On the fulfilling of all codal formalities the following teachers/Class Ivs are hereby removed from their service due to their long absence from duty with immediate effect.

Note: Entry to this effect should be made in their service books.

S#	Name	Desig:	School
1	Sadiqa	PET	GGMS Bilyamin
2	Maryam Farooq	CT	IHC Gogani
3	Slehnaz	TT	GGPS Barari
4	Abida Nawaz	AT	GGMS Tindo
5	Farah Deeba	PST	GGPS Bagzai
6	Shamia Bibi	PST	GGMS Badama
7	Irfanullah	PST	GPS Hamish Gul Kali
8	Latif Shah	PST	GPS Had Mela
9	Majid Hussain	PST	GHS Bilyamin
10	Jasim Khan	Peon	GHS Shah Ibrahim
11	Samad Hussain	Ch	GPS Talo Kunj
12	Muzafar Dawood	Ch:	GGPS Muzafar Kot
13	Sher Muhammad	Ch:	GHS Dogar
14	Fazal Rehman	Behish:	GHS Dogar
15	Awal Shah	Ch:	GPS Mirdo Tang
16	Zainullah	Swp:	GHS Paloseen
17	Sulaiman	N/Q	GHS Paloseen

Add: Agency Education Officer;  
Lower & Central Kurram Sadda

NO. 3374-78/Edu dated 18/02/2016

Copy for information to the

1. Director of Education FATA Peshawar.
2. Political Agent Kurram Agency.
3. Agency Account Officer Kurram Agency.
4. Head Masters /Teachers Concerned.

Add: Agency Education Officer;  
Lower & Central Kurram Sadda

**ATTESTED**



Handwritten notes: "B" (10) and a circled mark.

ABC CERTIFIED  
دردور اسلام آباد سبیک ڈاٹ نیچے ہونے والا کثیر الاشاعت قومی اخبار

جلد 49 | 22 رجب الثانی 1437ھ | 02 جنوری 2016ء | 12 روپے | شمارہ 164

### تفصیلی فہرست

- (1) IHC CT
- (2) CGMS PET
- (3) IHC CT
- (4) GGMS DM
- (5) GGMS DM
- (6) IHC CT
- (7) GGMS DM
- (8) GGMS AT
- (9) GGPS TT
- (10) GGPS TT
- (11) GGPS TT
- (12) GGPS TT
- (13) GGPS TT
- (14) IHC PST
- (15) GGPS PST
- (16) GGPS PST
- (17) GGPS PST
- (18) GGPS PST
- (19) GGPS PST
- (20) GGPS PST
- (21) GGPS PST
- (22) GGPS PST
- (23) GGPS PST
- (24) GGPS PST
- (25) GGPS PST
- (26) GGPS PST
- (27) GGPS PST
- (28) GGPS PST
- (29) GGPS PST
- (30) GGPS PST
- (31) GGPS PST
- (32) GGPS PST
- (33) GGPS PST
- (34) GGPS PST
- (35) GGPS PST
- (36) GGPS PST
- (37) GGPS PST
- (38) GGPS PST
- (39) GGPS PST
- (40) GGPS PST
- (41) GGPS PST
- (42) GGPS PST
- (43) GGPS PST
- (44) GGPS PST
- (45) GGPS PST
- (46) GGPS PST
- (47) GGPS PST
- (48) GGPS PST
- (49) GGPS PST
- (50) GGPS PST
- (51) GGPS PST
- (52) GGPS PST
- (53) GGPS PST

ATTESTED

Handwritten signature

Office copy

مختصر اخباری ڈائری (پبلشر) ایجوکیشن منسٹر

①

Ameru

۱۸/۱۰/۲۰۱۶ کو سلازبات  
"C" کی تاریخ "A" کی تاریخ سے  
مختصر اخباری ڈائری (پبلشر) ایجوکیشن منسٹر

(11)

سٹیڈی ایٹو کے لئے "A" کی تاریخ

مختصر اخباری ڈائری

① یہ سٹیڈی ایٹو کے لئے "A" کی تاریخ ۱۸/۱۰/۲۰۱۶ سے  
مختصر اخباری ڈائری (پبلشر) ایجوکیشن منسٹر

② یہ سٹیڈی ایٹو کے لئے "A" کی تاریخ ۱۸/۱۰/۲۰۱۶ سے  
مختصر اخباری ڈائری (پبلشر) ایجوکیشن منسٹر

③ یہ سٹیڈی ایٹو کے لئے "A" کی تاریخ ۱۸/۱۰/۲۰۱۶ سے  
مختصر اخباری ڈائری (پبلشر) ایجوکیشن منسٹر

④ یہ سٹیڈی ایٹو کے لئے "A" کی تاریخ ۱۸/۱۰/۲۰۱۶ سے  
مختصر اخباری ڈائری (پبلشر) ایجوکیشن منسٹر

⑤ یہ سٹیڈی ایٹو کے لئے "A" کی تاریخ ۱۸/۱۰/۲۰۱۶ سے  
مختصر اخباری ڈائری (پبلشر) ایجوکیشن منسٹر

(Removal order is attached)

⑥ یہ سٹیڈی ایٹو کے لئے "A" کی تاریخ ۱۵/۰۸/۲۰۱۵ سے  
مختصر اخباری ڈائری (پبلشر) ایجوکیشن منسٹر

ATTESTED

ہے

7) یہ جو صرف 2618/15 کو خلاصہ ہے جو نوٹس 49 کا جواب ہے وہ یہ مذکورہ نوٹس 49 ملازمین کے  
 جواباً لکھا گیا ہے۔ نوٹس 49 میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو ان کے لئے ایک ایکسپنس اور ہر ماہ 17 ملازمین  
 کی صورت میں نوٹس 49 میں کو ٹارگٹ لگا لیا گیا ہے جو نوٹس 49 اور ان کے لئے ایک ایکسپنس اور ہر ماہ 17  
 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49 میں کو ٹارگٹ لگا لیا گیا ہے۔

8) یہ ملاحظہ فرمائیں کہ Rules and Regulations کے تحت اس کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے  
 نوٹس 49 ملازمین کے لئے ایک ایکسپنس اور ہر ماہ 17 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں  
 اور صورت Aggrieved ملازمین کے لئے ایک ایکسپنس اور ہر ماہ 17 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49

9) یہ مذکورہ سہ ماہی پرچہ اور اس کے تحت اس کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے  
 کو ملاحظہ فرمائیں کہ اس کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49  
 جو اس کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں  
 53 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49

( Acknowledgment of newspaper attached )

10) یہ مذکورہ نوٹس 49 کے تحت اس کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے  
 کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں  
 کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں  
 کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں

11) یہ مذکورہ نوٹس 49 کے تحت اس کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے  
 کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں  
 کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں  
 کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں

12) یہ مذکورہ نوٹس 49 کے تحت اس کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے  
 کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں  
 کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں  
 کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں

13) یہ مذکورہ نوٹس 49 کے تحت اس کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے  
 کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں  
 کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں  
 کے مطابق یہ مذکورہ لکھیے ہوئے نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں نوٹس 49 ملازمین کی صورت میں

ATTESTED

یہ

(13) (14) یہ سب مقررہ ملازمین کو کئی سوچ نہ رہا تاکہ اور ان کے حقوق و سزاؤں کی طرف سے

(15) یہ سب مقررہ ملازمین کو کئی سوچ نہ رہا تاکہ اور ان کے حقوق و سزاؤں کی طرف سے

حکومت پاکستان کے سرکار کے ملازمین اور ان کے حقوق و سزاؤں کی طرف سے

- ① copy to Political Agent Kutch
- ② copy to Account Officer Kutch
- ③ Head Master Kutch

مل جل  
 Political Agent Kutch  
 Account Officer Kutch  
 Head Master Kutch

تاریخ 17 مارچ 1960

- ① PEI
- ② PEI
- ③ TT
- ④ AT
- ⑤ PST
- ⑥ PST
- ⑦ PST
- ⑧ PST
- ⑨ PST
- ⑩ PST
- ⑪ PST
- ⑫ PST
- ⑬ PST
- ⑭ PST
- ⑮ PST

ATTESTED

Lal

(17) 11/9

Annexure D (14)

Kurram at Ara C

S#: 2

P Sec:001 Month:January 2016  
KM1118 -ADDITIONAL AGENCY EDU OFFR  
Min. Of K.A & N.A & S.F.R

Pers #: 00674761 Buckle:

Name: Awal Shah

NTN:

CHOWKIDAR

GPF #:

CNIC No.2130128645281

Old #:

GPF Interest Applied

02 Active Permanent

KM1118 -

PAYS AND ALLOWANCES:

2174-Adhoc Relief Allow-2014

745.00

2199-Adhoc Relief Allow @10%

985.00

Gross Pay and Allowances

20,738.00

DEDUCTIONS:

GPF Balance 18,451.00

Subrc:

Total Deductions

713.00

20,025.00

D.O.B

LFP Quota:

01.01.1977

NATIONAL BANK OF PAK

16 Years 07 Months 018 Days

1312-9

**ATTESTED**



Kurram at Ara C

S#: 1

P Sec:001 Month:January 2016  
KM1118 -ADDITIONAL AGENCY EDU OF  
Min. Of K.A & N.A & S.F.R

Pers #: 00674761 Buckle:  
Name: Awal Shah  
CHOWKIDAR

NTN:  
GPF #:  
Old #:

CNIC No.2130128645281  
GPF Interest Applied  
02 Active Permanent

KM1118

PAYS AND ALLOWANCES:

0001-Basic Pay	9,855.00
1000-House Rent Allowance	910.00
1210-Convey Allowance 2005	1,785.00
1300-Medical Allowance	1,500.00
1516-Dress/ Uniform Allowance	100.00
1528-Unattractive Area Allow	1,574.00
1567-Washing Allowance	100.00
1948-Adhoc Allowance 2010@ 50%	2,067.00
2148-15% Adhoc Relief All-2013	1,117.00
Gross Pay and Allowances	20,738.00

DEDUCTIONS:

GPF Balance 18,451.00	Subrc:	482.00
3661-E.E.F (Exchange)		50.00
3701-Benevolent Fund(Exchange)		120.00
3704-Group Insurance(Exchange)		58.00
3711-Addl Group Insuranc(Exch)		3.00

Total Deductions 713.00

20,025.00

D.O.B  
01.01.1977  
16 Years 07 Months 018 Days

LFP Quota:  
NATIONAL BANK OF PAK  
1312-9

**ATTESTED**







11/10

19

FATA SECRETARIAT  
DIRECTORATE OF EDUCATION

Warsak Road Peshawar

No. \_\_\_\_\_ dt: 03/08/10

A-12/Majid Gul I/C H/M

Amu...  
E

To

The Director  
Elementary & Secondary Education  
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar

~~Amu...~~  
(15)  
(10/7/11)

Subject: COMPLAINT/ENQUIRY  
Memo

I am directed to enclose herewith a copy of the complaint received in this office against Mr. Majid Gul SET working as I/C Headmaster GHS Minatoo, Kurram Agency and to submit that Mr. Majid Gul SET working as AAEO Lower/Central Kurram Agency was transferred to GMHS Sadda vide this Directorate Endst: No. 11224-29 dated 18-7-2009. As per report of the Principal GMHS Sadda Kurram Agency, the above named teacher does not perform duties regularly (Copy enclosed) and his pay has been stopped vide this Directorate Endst: No. 7528 dated 31-5-2010 (Copy enclosed) while working as AAEO Lower Kurram, he was allegedly involved in financial corruption and irregular deduction of monthly salaries from the female community school teachers (Copies of complaint attached).

In view of the above, it is requested that disciplinary action may be initiated against the accused teacher being an employee of provincial cadre under intimation to this office.

SI  
DY: DIRECTOR EDUCATION  
FATA SECRETARIAT PESHAWAR

Endst: No. 11224-29

Copy forwarded to:-

- 1 Addl: AEO, Lower/Central Kurram
- 2 ✓ Principal GMHS Sadda, Kurram Agency
- 3 P.A to D.E FATA

*[Signature]*  
DY: DIRECTOR EDUCATION  
FATA SECRETARIAT PESHAWAR


**ATTESTED**

*[Signature]*

جناب والا شان ایڈیشنل چیف سیکرٹری فانا

درخواست برائے کارروائی طلباء کی حالت پر رحم کرنا

اور مجید گل SET کے خلاف کارروائی کرنا

  
Amelur  
F  
(16)

جناب والا شان: شائد آپ کے علم میں ہوگا کہ مجید گل صدر دفتر میں AAEO پوسٹ پر تھا اور انچارج ایڈیشنل AAEO بھی تھا 18 مارچ 2015ء کا تبادلہ گورنمنٹ سہیل سکول میں بحیثیت SET کیا گیا ہے۔ نمبر 25/04/2015 تک اس نے سکول کا مکمل نمک نہیں دیکھا ہے۔ جو ہمارے بچوں کے ساتھ سخت نا انصافی اور ظلم ہے۔ مجید گل پہلے سے عادی ہے۔ بطور ثبوت اس کا سابقہ ریکارڈ پیش کرنا چاہتا ہوں۔

(1) 2009ء میں ایجوکیشن آفیس صدر سے مجید گل کا ٹرانسفر GMHS صدر بحیثیت SET کیا گیا تو وہ ڈیوٹی سے غائب رہتا تھا آخر کار پرنسپل صدر کے نمبر 2510 NO: 60 dated 06/03/2015 کے فیہ حاضری کے خلاف ڈائریکٹر ایجوکیشن فانا کو خط لکھا گیا (خط تھیں ہے) مقرر

(2) اسکے بعد وہ ایس صدر دفتر میں آنے کا کوشش کر رہا تھا۔ اور نام ڈائریکٹر ایجوکیشن فانا کے سامنے ایڈیشنل ایجوکیشن آفیس نے ایک بار پھر اسکے خلاف ڈائریکٹر ایجوکیشن فانا کو ایک خط نمبر NO: 709-11 dated 03/05/2010 کے ذریعے آگاہ کیا۔ (خط تھیں ہے) مقرر

(3) ڈائریکٹر ایجوکیشن فانا نے اسکے خلاف ڈائریکٹر ایجوکیشن فانا کو ایک خط نمبر NO: 11665-66 dated 03/08/2010 کے ذریعے کارروائی لینے کو خط لکھا (خط تھیں ہے) مقرر

جناب والا شان:

مجید گل کو ایک بار پھر سیاسی پشت پناہی حاصل ہوئی کارروائی تو دور کی بات۔ اس کو ایک بار پھر ایڈیشنل AEO مقرر کیا۔ اور دو (2) سالوں

میں اس نے گورنمنٹ گروپ کے نقلی ڈھانچے کو کروڑوں کے عوض اتاہ کیا۔ اساتذہ کو گھروں بیجا کر فضلی نقلی تنخواہ پر مجبور کرتا تھا۔ اور بھی گزرا جب ایک دفعہ پھر اس کو سہیل سکول میں تبدیل کیا گیا تو تھیں کی باری سہیل سکول میں کو نصیب میں ملی، اور یہی سہی گزریاں پورا کیا جائے گا۔

جناب والا شان: یہی بچوں پر رحم فرما کر اس انسان کو KPK میں کسی پرنسپل کو حوالہ کر کے ڈیوٹی کا عادی بنایا جائے

گزارش ہے

تاریخ 25/04/2015

العارضین

الہدیاں مکن گروم ایجنسی

خطی نقل بھیجی گئی

- |     |                           |
|-----|---------------------------|
| (1) | ڈائریکٹر ایجوکیشن فانا    |
| (2) | سیکرٹری سہیل سیکرٹری      |
| (3) | پولیسکل ایجنٹ گروم        |
| (3) | اسٹیشن پولیسکل ایجنٹ گروم |

ATTESTED



خدمت جناب ایڈیشنل چیف سیکرٹری فنانس سیکرٹریٹ

اپیل برائے فراہمی انصاف اور کمیونٹی سکولوں کے  
خواتین، حضرات ٹیچرز کو مئی 2013ء سے ریگولر کرنا۔

Ameru  
17

جناب والا: جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 15 سال قبل فنانس سیکرٹریٹ کی کمیونٹی سکولوں کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس دوران کئی بار سکولوں کو دوران کے اساتذہ کو ختم کر کے پھر بحال کر کے آکھ چھوٹی جاری تھی کسی کو اس پر احتجاج کا سلسلہ اسلام آباد تک جا پہنچا آخر کار گورنر خیر پختون خانے اس میں فنانس سیکرٹریٹ کے ذریعے ایک فرمان جاری کیا (No: So(E)/SSD/CSTR/99-108) کہ تب تک تازہ مہرتی پر پابندی ہوگی جب تک کمیونٹی سکولوں کے تمام اساتذہ ریگولر نہ ہو اور اس میں یہ شرط بھی تھی کہ سب سے پہلے لوکل پھر نان لوکل ریگولر کیا جائے (فنانس سیکرٹریٹ خط تھی ہے)

جناب والا: سابق ایڈیشنل AEO حاجی معین گل صاحب نے ایمانداری کر کے تقریباً تمام لوکل اساتذہ کو ریگولر کر دیا۔ جبکہ نان لوکل کیلئے کوئی خالی پوسٹ نہ رہا۔ مگر تسلی دی کہ خالی پوسٹ آنے والے ہیں اس دوران حاجی معین گل صاحب کا تبادلہ کر دیا گیا اور اسکی جگہ مجید گل ایڈیشنل AEO مقرر ہوا۔ مختصر ایک ماہ بعد بہت زیادہ PTC پوسٹ ایجوکیشن آفس صہ کو مل گئے۔ جس پر پہلے پرائیکٹ ٹیچرز کو ریگولر کر دیا جبکہ تقریباً 35 پوسٹ بقیہ رہ گئے۔ اور کئی PTC اساتذہ کا 2012ء انٹرویو میں CT پوسٹ پر تعیناتی ہوئی ان کے سیٹ بھی خالی ہو گئے دو (2) ماہ بعد ہمیں خدشہ ہوا کہ خالی پوسٹوں پر غیر قانونی اور خفیہ طریقے سے تعیناتی شروع ہے۔ جس کیلئے ہم نے بطور خدشہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو ایک خط بھی لکھا (جسکی کاپی درخواست ہذا اسکا تھ لف ہے) مگر کسی نے کوئی کان نہیں ڈہرایا۔

اب خدشات درست ثابت ہوئے مجید گل صاحب (فرٹون۔ ظالم) نے اقرباء پروری اور ظلم کی انتہا کر کے ہماری حق پر ڈاک ڈال کر لوگوں سے کروڑوں میں رشوت لیکر ہمارا حق چھین لیا۔ اور خود کروڑوں کا مالک بن کر اپنے گاؤں میں شاہانہ طرز مقان تعمیر کیا اپنے بیٹے کیلئے مبلغ بیس (20) لاکھ روپے یا سو دیکھ کا دیرہ خرید کر بیرون ملک بھیج دیا۔ ہم ابھی تک در بدر کھڑے ہیں آخر کار ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک دفعہ پھر ہم آپ صاحب کے سامنے یہ فریاد رکھنا چاہتے ہیں

- (1) کہ ہمیں مئی 2013ء سے ریگولر کر دیا جائے
- (2) جن لوگوں کو غیر قانونی حق دیا ہے ان کو ریویو کر کے ہمارے لئے پوسٹیں خالی کئے جائے
- (3) ظالم کو غیر تازہ کر دیا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی اور ایسا جرات نہ کر سکے۔ بصورت مجبوری عدالت کے دروازے ہر مظلوم کیلئے کھلے ہیں

العار یضین نان لوکل کمیونٹی سکول ٹیچرز

- (1) سومیہ رحمن 6-344927-17101-NIC: (2) حومیر اشش 8-8561110-17101-NIC: (3) گوہر سیما 4-4789022-14203-NIC:
- (4) لہنی عزیز 4-6629858-16201-NIC: (5) نازیہ خاتون 2-8724258-14203-NIC: (6) حلیمہ (7) سیما (8)
- کوثر فرید 6-1397459-17101-NIC: (9) نور جہاں 2-798389-14203-NIC: (10) غوثیہ افضل (11) واحد بی بی 0-4256650-16202-NIC:
- (12) راحت جان 4-0292256-17101-NIC: (13) رفعت ناز 2-1984611-14203-NIC: (14) روبینہ 6-0313917-17101-NIC:
- (15) یاسمینہ (16) سیما گل 4-5095077-17201-NIC: (17) نذیب بی بی (18) راحت نذیرہ 6-4189294-17101-NIC:
- (19) نسیمت 0-2219600-16102-NIC: (20) سویرا 2-8617813-17101-NIC:

اس درخواست کی کاپی مندرجہ ذیل کو بھیج دی گئی۔

(1) پولیٹیکل ایجنٹ گرم  
(2) ڈائریکٹر ایجوکیشن فنانس سیکرٹریٹ پشاور

ATTESTED

بصورت

صناب دلا اسکے بارے میں کہی بار ڈائریکٹر کو بھی آگاہ کیا  
سنگھ ٹری افتاب ڈرائی صاحب کو بھی آگاہ کیا مگر ابھی تک  
افسر منرے اڑا رہے ہیں اور اس میں اس کے ساتھ اور لوگ  
بھی ملوث ہیں

لہذا درخواست کی جاتی ہے کہ مندرجہ افسر مجید گل کو گرفتار  
کر کے اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس کے ساتھ  
بھیگیز سے جتنا مال کھایا ہے۔ ورنہ اس کی درخواست ہے  
اب اس کے افسر کریں گے

عشر لاؤٹنٹ ہوگی

5-1-2014

نقل درخواست چھپا گیا


ڈائریکٹر جنرل اینٹ NAB اسلام آباد

از صدر بارڈر اسٹ

ATTESTED

نہی

بعدالت جناب سیر و سس رڈ سینٹرل سٹیٹ ٹرانسپورٹ کورپوریشن



اول شدہ سالانہ رپورٹ بنام ریجنل ایگزیکیوٹو آفیسر  
 ڈیپارٹمنٹ برائے سیر و سس رڈ سینٹرل سٹیٹ ٹرانسپورٹ کورپوریشن  
 کراچی

موزعہ : 6/6/2016  
 مقدمہ :  
 دعویٰ : سیر و سس رڈ سینٹرل سٹیٹ ٹرانسپورٹ کورپوریشن  
 جرم :  
 \_\_\_\_\_

### باعث تحریر آنکے

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی و کل کارروائی متعلقہ ہر  
 آن مقام کے لئے \_\_\_\_\_ کیلئے \_\_\_\_\_ کے لئے  
 مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے۔ کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کارروائی کا کامل اختیار ہوگا۔ نیز  
 وکیل صاحب کو راضی نامہ کرنے و تقرر ثالثتہ فیصلہ برحلف دیئے جواب دہی اور اقبال دعویٰ اور  
 بصورت ڈگری کرنے اجراء اور صولی چیک و روپیہ عرضی دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تصدیق  
 زرائیں پر دستخط کرانے کا اختیار ہوگا۔ نیز صورت عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی برآمدگی اور منسوخی  
 نیز دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہوگا۔ از بصورت ضرورت مقدمہ مذکور  
 کے کل یا جزوی کارروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنے بجائے تقرر کا اختیار  
 ہوگا۔ اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی جملہ مذکورہ با اختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ  
 پرواختہ منظور قبول ہوگا۔ دوران مقدمہ میں جو خرچہ ہر جانبہ التوائے مقدمہ کے سبب سے ہوگا۔  
 کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند ہوں گے۔ کہ پیروی  
 مذکور کریں۔ لہذا وکالت نامہ لکھ دیا کہ سند ہے۔

المرقوم 6 \_\_\_\_\_ ماہ جن 2016

\_\_\_\_\_ گ \_\_\_\_\_ واہ الب

Attested  
 by  
 \_\_\_\_\_

کے لئے منظور ہے۔

بمقام کراچی